

Covid-19 ویکسین کے بارے میں معلومات

Covid-19 ویکسین کے بارے میں آپ کو جو کچھ جاننے کی ضرورت ہے وہ یہاں ہے

- Covid-19 ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔ یہ آپ کو کورونا وائرس سے بہترین تحفظ فراہم کرتا ہے۔
- ویکسینز کی مکمل طور پر جانچ کر لی گئی ہے اور طبی ماہرین نے انہیں منظوری دے دی ہے۔
- لاکھوں لوگوں کو Covid-19 ویکسین دی گئی ہے اور اس کے سنگین ضمنی اثرات جیسے الرجک رد عمل بہت کم سامنے آئے ہیں۔
- NHS ان لوگوں کو ویکسین دینے کو ترجیح دے رہا ہے جنہیں Covid-19 سے شدید بیمار ہونے کا خطرہ لاحق ہے۔ جس ترتیب سے لوگوں کو ویکسین دی جا رہی ہے وہ طبی ماہرین کے آزاد مشوروں پر مبنی ہے۔
- جب ویکسین لگانے کی آپ کی باری آئے گی تو NHS آپ سے رابطہ کرے گا۔
- ویکسین کی 2 خوراک دی جاتی ہے۔ پہلی خوراک لینے کے 3 سے 12 ہفتوں کے بعد آپ کو دوسری خوراک دی جائے گی۔
- ویکسین کی پہلی خوراک آپ کو کورونا وائرس سے اچھا تحفظ فراہم کرے گی، لیکن آپ کو دوسری خوراک لینے کی ضرورت ہے تاکہ مکمل تحفظ فراہم ہو سکے جو کہ زیادہ دیر پا ہے۔
- اگر آپ نے ویکسین لے لی ہے پھر بھی آپ کو کورونا وائرس ہونے یا پھیلانے کا معمولی امکان موجود ہے۔ جب تک حکومت کی طرف سے بصورت دیگر کا اعلان نہ کر دیا جائے آپ سماجی دوری کے رہنما اصول پر عمل کرنا جاری رکھیں۔
- Covid-19 ویکسین میں کسی جانور کی مصنوعات یا انڈا نہیں ہوتا ہے۔
- اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ویکسین سے کورونا وائرس پیدا ہوتا ہے۔
- NHS کبھی بھی آپ سے بینکیا مالی معلومات طلب نہیں کرے گا یا آپ سے NHS کے مفت Covid-19 ویکسینیشن پروگرام کے ایک حصہ کے طور پر اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے نہیں کہے گا۔
- اگر آپ کو یہ معلومات مختلف فارمیٹیا زبان میں چاہیے تو، براہ کرم 01454 868009 پر فون کریں
- یہ دیکھنے کے لئے کہ کیا آپ ابھی اہل بینیا نہیں اور ویکسین بک کرنے کے لئے، 119 پر کال کریں یا nhs.uk/covid-vaccination پر جائیں
- ویکسین کے بارے میں مزید معلومات: www.southglos.gov.uk/vaccination
- اگر آپ کسی دوسری زبان یا فارمیٹ میں Covid-19 ویکسینیشن کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم اس نمبر پر کال کریں: 01454 868009

HANDS



FACE



(Unless exempt)

SPACE



FRESH AIR



URDU